

اورسيز وزیٹرز اور اورسيز طلباء

ہم سے رابطہ کریں

ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

ہمارے دفاتر ان شہروں میں
ہیں:

Adelaide »
Brisbane »
Canberra »
Melbourne »
Perth »
Sydney »

اورسيز وزیٹرز اور اورسيز طلباء

اگر آپ آسٹریلیا آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس عارضی ویزہ ہے تو آپ کو اورسيز ہیلتھ کور (Overseas Health Cover - OVHC) لینے پر غور کرنا چاہئے۔ اگر یہاں موجود ہوتے ہوئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یا ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو علاج کے مکمل اخراجات ادا کرنے پڑیں، جو کہ بہت مہنگا ہوسکتا ہے۔

کچھ صورتوں میں ہوسکتا ہے کہ آپ کو اپنے ویزے کی شرائط کے طور پر صحتی بیمہ لینا پڑے۔ اگر آپ Temporary Skill Shortage (TSS) یا ویزہ سب کلاس 485 کے لئے درخواست دے رہے ہیں تو آپ کو ایک کم سے کم درجے کا صحتی بیمہ لینا ہوگا اور اسے آسٹریلیا میں اپنے قیام کے دوران برقرار رکھنا ہوگا۔ آسٹریلیا میں موجود طلباء جن کے پاس عارضی اسٹوڈنٹ ویزہ ہے، ہوسکتا ہے کہ، ویزے کی شرط کے طور پر انہیں اورسيز اسٹوڈنٹ ہیلتھ کور (Overseas Student Health Cover - OSHC) لینا پڑے۔

بوکے، ریپبلک آف آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، سویڈن، نیدرلینڈز، فن لینڈ، بیلجیم، ناروے، سلوانیہ، مالٹا اور اٹلی سے آئے ہوئے لوگ (طلباء نہیں۔ OSHC دیکھیں) آسٹریلیا کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے باہمی انتظامات کے تحت ممکنہ طور پر میڈی کیئر فوائد کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہیں صحت کے سرکاری نظام میں فوری نوعیت کا ضروری طبی علاج دستیاب ہوسکتا ہے لیکن اس کے علاوہ انہیں کوئی اور فوائد کا حق حاصل نہیں اور اس کے باوجود انہیں OVHC لینے پر غور کرنا چاہئے۔

اگر آپ مستقل رہائشی کے طور پر حال ہی میں آسٹریلیا ہجرت کر کے آئے ہیں یا آپ نے مستقل رہائش کے لئے درخواست دی ہوئی ہے تو عموماً آپ میڈی کیئر میں اندراج کروا کر صحت کی خدمات تک فوری رسائی حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ آپ رہائشیوں کا نجی صحتی بیمہ بھی خرید سکتے ہیں۔

مجھے کس قسم کا کور (cover) خریدنا چاہئے؟

ویزے کی قسم	ہیلتھ انشورنس کی قسم
اسٹوڈنٹ ویزہ	اورسيز اسٹوڈنٹ ہیلتھ کور آپ کی ویزے کی ضروریات کو پورا کرے گا۔
TSS ویزہ اور 457 ویزہ	457 کی شرائط پر پورا اترنے والا اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور آپ کی ویزے کی ضروریات کو پورا کرے گا۔
485 ویزہ	485 کی شرائط پر پورا اترنے والا اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور آپ کی ویزے کی ضروریات کو پورا کرے گا۔
8501 سے مشروط کوئی بھی ویزہ	457 یا 485 کی شرائط پر پورا اترنے والا اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور صحتی بیمے کی شرط 8501 کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ دیگر اقسام کے اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور یا بین الاقوامی کور بھی ضروریات کو پورا کرسکتے ہیں۔

کوئی اور دیگر ویزہ	اگر آپ کو میڈی کیئر فوائد کسی شکل میں دستیاب نہیں ہیں یا آپ کے پاس دوطرفہ میڈی کیئر فوائد ہیں تو آپ کسی آسٹریلوی یا بین الاقوامی انشورنس ادارے سے اورسٹریٹرز بیلٹھ کور خرید سکتے ہیں۔
	اگر آپ کے پاس عارضی (عموما نیلا) یا مکمل (عموما سبز) میڈی کیئر کارڈ ہے تو آپ آسٹریلیا کے رہائشیوں کے لئے دستیاب نجی طبی بیمہ خرید سکتے ہیں۔

ویزٹرز کے لئے بیلٹھ انشورنس کے بارے میں تجاویز

- فٹنڈ اور انشورنس پالیسیوں کے مابین فوائد، رکنیت کے اخراجات اور اہلیت میں کافی زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ جب کوئی بھی صحتی بیمہ خریدیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا منتخب شدہ کور آپ کی ضروریات کے لئے مناسب ہے۔
- یقینی بنائیں کہ آپ انتظار کی اس مدت سے آگاہ ہیں** جس کا آپ کی خرید کردہ پالیسی پر اطلاق ہوتا ہے۔ زیادہ تر بیمہ کار پہلے سے موجود مسائل کے کور کے لئے 12 ماہ انتظار کرنے کی مدت کا اطلاق کرتے ہیں اور کچھ بیمہ کار پہلے سے موجود مسائل کو سرے سے ہی خارج کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ مسائل بالکل بھی کور نہیں کئے جاسکتے۔ چونکہ OVHC کا اطلاق عموماً آپ کے آسٹریلیا آ جانے کے بعد سے ہوتا ہے، آسٹریلیا آنے کے سفر کے دوران لاحق ہونے والی بیماریوں کو پہلے سے موجود مسائل گردانا جاتا ہے۔
- پالیسی کی پابندیاں اور استثنیٰ چیک کر لیں۔** ہر مسئلہ مکمل طور پر کور نہیں کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل کور نہ کی جائیں۔ یاد رکھیں کہ اورسٹریٹرز کے لئے ہسپتال کے اخراجات، حتیٰ کہ سرکاری ہسپتال میں بھی، عموماً \$1,000 یومیہ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
- ہسپتال کے کور کا اعلیٰ ترین درجہ لینے پر غور کریں جسے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔** آپ علاج معالجے کی ضرورت پڑنے پر زیادہ اضافی (excess) ادائیگی کا انتخاب کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پریمیم پر پیسہ بچانے کی فکر کریں اور خود کو محدود کر لیں۔
- چیک کر لیں کہ آپ کی پالیسی میں کس طرح فارمیسی (ادویات) کور کرتی ہے** کیونکہ زیادہ تر پالیسیوں میں محدود کور ہوتا ہے اور وہ زیادہ مہنگی ادویات کو مناسب طور پر کور نہیں کرتیں جیسے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی کیمو تھراپی کی ادویات، جن کی قیمت دسیوں ہزاروں ڈالرز میں ہوتی ہے۔
- اگر آپ کے ویزے کی حیثیت یا میڈیکل کی اہلیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اپنے فنڈ کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آگاہ کریں۔** ان سے چیک کریں کہ آپ کی پالیسی ابھی بھی موزوں ہے، کیونکہ اب آپ رہائشیوں کی پالیسی پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔
- اپنی پالیسی کی ادائیگی تاحال جاری اور مستند رکھیں۔** اگر آپ کی پالیسی کی ادائیگیاں باقی رہ گئیں تو آپ کا فنڈ کلیم خارج کر سکتا ہے یا آپ کی رکنیت معطل کر سکتا ہے۔
- اگر آپ علاج کی توقع کر رہے ہیں تو اپنے فنڈ سے رابطہ کریں اور معلوم کریں کہ آیا آپ کورڈ ہیں اور آپ کو کتنی ادائیگی کرنی ہوگی۔** اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ کا بیمہ کار اسے کور نہیں کرتا تو خدمت فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی جیب سے کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ممکن ہو تو تحریری طور پر نرخ پوچھیں۔

مزید معلومات ویب سائٹ ombudsman.gov.au پر دستیاب ہیں

براہ کرم نوٹ کریں: یہ دستاویز صرف ایک رہنمائی کے طور پر جاری کی گئی ہے۔ اس وجہ سے، اس میں پیش کردہ معلومات پر انفرادی معاملات کے لیے بطور قانونی مشورہ انحصار نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اسے یا متبادل قانونی مشورہ سمجھا جانا چاہئے۔ اس دستاویز پر انحصار کرنے کے نتیجے میں دولت مشترکہ محتسب، قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ جائز حد میں رہتے ہوئے، آپ کو ہونے والے کسی قسم کے نقصان یا گھٹائے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ نکر شدہ قوانین کے تازہ ترین جریوں کے لیے، براہ کرم [وفاقی ریجسٹر برائے قانون سازی](#) سے رجوع کریں۔